

### برامپٹن نے آرٹس واک آف فیم کے نامزدگان کا اعلان کر دیا

**بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈائریکٹر X، نیویارک ٹائمز کی چوٹی کے مصنفہ رُوپی کوہر، CBC کی مارننگ ایڈیشن کی میزبان زرقہ نواز اور تاریخی و شہابی امور کے ماہر ولیم پرکنز بل کو برامپٹن کے مشہور رہائشیوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، بشمول ماضی کے نامزدگان میں سے رسل پیٹرز اور مانیکل کیرا**

برامپٹن، آن، 10 اپریل 2018: سٹی آف برامپٹن نے آج آرٹس واک آف فیم کے تازہ ترین نامزدگان کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ برامپٹن سے تعلق رکھنے والے یا اپنے تخلیقی سال یہاں پر گزارنے والے ان چمکتے ستاروں میں سے ہر ایک نے فنون اور تفریح کے شعبے میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ ان کے کام پر برامپٹن کمیونٹی فخر محسوس کرتی ہے اور یہ ابھرتے ہوئے فنکاروں اور تخلیق کاروں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ اس سال کے نامزدگان میں شامل ہیں:

- **ڈائریکٹر X** – جولین کرسچینن لوتز، ڈائریکٹر X کو مشہور فنکاروں مثلاً ڈریک، کینڈرک لامر، ریانہ، جے۔ زی، جسٹن بانیر، کینیڈے ویسٹ اور دیگر کئی مشہور فنکاروں کے ساتھ ہائی بجٹ اور ممتاز مقام رکھنے والی ویڈیوز میں اپنی ہدایتکاری کے جوہر دکھانے پر نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے کام کو MTV میوزک ویڈیو ایوارڈز اور مچ میوزک ویڈیو ایوارڈز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ 2015 میں مسٹر X نے اٹلانٹک فلم فیسٹیول کے دوران 'اکراس دی لائن' میں اپنی شاندار ہدایتکاری پر بیسٹ فیچر کا ایوارڈ جیتا اور انہوں نے حال ہی میں ایک انتہائی متوقع فلم "سرفلائی" میں اپنی ہدایتکاری کے جوہر دکھائے ہیں، جو سونی، کولمبیا پکچرز کی جانب سے جون 2018 میں تھیٹر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ ([www.directorXfilms.com](http://www.directorXfilms.com))
- **رُوپی کوہر** – رُوپی کوہر ایک مشہور شاعرہ، فنکارہ اور اداکارہ ہیں۔ ان کے فن کا سفر صرف 5 سال کی عمر سے شروع ہوا جب ان کی ماں نے انہیں ایک پینٹ برش دیا اور کہا کہ "آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ بنا ڈالو"۔ ابھی رُوپی واٹرلو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہی تھیں، کہ انہوں نے **ملک اینڈ بانی** کے نام سے ایک مجموعہ کلام لکھا اور اس کو ترتیب دے کر چھپوایا۔ ان کے اس مجموعہ کی اب تک 3 ملین سے زیادہ نقول فروخت ہو چکی ہیں اور اب تک اس کا 35 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس نے 100 مسلسل ہفتوں تک نیویارک ٹائمز کے نمبر 1 بیسٹ سیلر کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ رُوپی کا دوسرا شدت سے انتظار کیا جانے والا مجموعہ **دی سن اینڈ ٹر فلاورز** 2017 میں طبع شدہ شکل میں سامنے آیا اور یہ بھی نمبر 1 گلوبل بیسٹ سیلر رہا ہے۔ وہ فوربز 30 انڈر 30 رہ چکی ہیں اور ان کا نام BBC کی 2017 کی 100 خواتین میں شامل رہا ہے۔ ([www.rupikaur.com](http://www.rupikaur.com))
- **زرقہ نواز** – 2005 کی دھواں دار دستاویزی فلم **می اینڈ دی موسک** اور چوٹی کے دیگر کئی مزاحیہ سلسلوں کی تخلیق کارہ ہیں جن میں سے ان کی ایک سیریز **لٹل ماسک آن دی پریری** CBC ٹیلیویژن پر 2007 اور 2012 کے درمیان نشر ہو چکی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک بہترین فروخت ہونے والا مزاحیہ سلسلہ **لاؤنگ آل دی وے ٹو دی موسک** تصنیف کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ مسلمان عقیدہ کے ساتھ کینیڈا میں پرورش پانا کیسا ہے۔ زرقہ موجودہ طور پر CBC کے مارننگ ایڈیشن کی میزبانی کر رہی ہیں۔ ([www.zarqanawaz.com](http://www.zarqanawaz.com))
- **ولیم پرکنز بل، لٹریچر (بعد از مرگ)** – ڈبلیو ایم پرکنز بل ایک کامیاب قانون دان، ماہر معاشیات، فلاسفر اور تاریخ دان تھا۔ 1930 کے اوائل میں انہوں نے پیل کاؤنٹی کی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ شروع کیا جس کے نتیجے میں پیل کی ثقافت اور قدرتی تاریخ کے حوالے سے تیرہ جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب مطبوعہ شکل میں سامنے آئی۔ بل کے ہسٹری پروجیکٹ کے سلسلے میں بڑی تعداد میں تاریخی مصنوعات، محافظ خانوں کے ریکارڈ اور فنون سے متعلق تاریخی مواد سامنے آیا۔ 2006 میں پیل ہیریٹیج کمپلیکس (موجودہ طور پر پیل آرٹ گیلری، میوزیم اینڈ آرکائیوز) میں آثار قدیمہ کے مطالعہ کے کمرے کو باضابطہ طور پر ڈبلیو ایم پرکنز بل ریٹنگ روم کا نام دے دیا گیا اور 2007 میں اوٹیریو ہیریٹیج ٹرسٹ نے مسٹر بل کی صوبے کی تاریخی حیثیت کی چھان بین کے حوالے سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔
- آرٹس واک آف فیم میں نامزد شدہ فنکاروں کی نمایاں خدمات کا اعتراف کیا جائے گا اور اس کے بعد نامزدگان کے فن پاروں کو پریزنٹیشن کی انفرادی نشستوں میں اجاگر کیا جائے گا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ پریزنٹیشن کے ان مواقع میں پہلے **این ایوننگ وڈ رُوپی کوہر** منعقد کیا جائے گا، جس کی منصوبہ بندی بروز جمعرات مورخہ 26 اپریل 2018 کو کی گئی ہے، بمقام روز تھیٹر۔ تفصیلات اور ٹکٹ یہاں پر دستیاب ہیں (<http://www.rosetheatre.ca>)

آرٹس واک آف فیم کی 2014 کی شروعات کے بعد، نئے نامزدگان کی شمولیت سے ستاروں کی تعداد 21 ہو جائے گی۔ بعد میں شامل کیے جانے والے نامزدگان میں شامل ہیں رسل پیٹرز، مائیکل سیرا، اوتھیلی گرابام، کیشیا چانٹے، ایکسکو لیوی، روپنٹن مسٹری اور دیگر۔ آرٹس واک آف فیم، برامپٹن ڈاؤن ٹاؤن میں گارڈن اسکوائر میں واقع ہے۔ علاقے میں جاری تعمیراتی کاموں کی وجہ سے 2017 کے نامزدگان کے لیے مارکرز کی تنصیب عارضی طور پر مؤخر کر دی گئی ہے۔ نامزدگان کی مکمل فہرست اور مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں  
<http://www.brampton.ca/artswalkoffame>

آرٹس واک آف فیم، سٹی آف برامپٹن کے کلیدی حیثیت کے چند اعترافی پروگراموں میں سے ایک ہے جس میں برامپٹن کے ابھرتے ہوئے ستاروں کی کامیابیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے اور انہیں منایا جاتا ہے۔ جس کا مقصد برامپٹن کے نئے آنے والے فنکاروں کو رغبت دلانا ہے تاکہ وہ بھی اپنے پیشواؤں کے نقش قدم پر چل کر انہی کی طرح نام پیدا کریں۔

#### اقتباس:

"فنون و ثقافت سے سرشار و جاندار کمیونٹی شہر کو مضبوط تر بناتی ہے۔ برامپٹن سے تعلق رکھنے والے شاندار صلاحیتوں کے مالک لوگ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے انتہائی فخریہ مقام رکھتے ہیں۔ آرٹس واک آف فیم ہمارے لیے ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایسے فنکاروں کی کامیابیوں کا اعتراف کرتے ہیں جو نہ صرف اپنے شعبے میں ممتاز مقام رکھتے ہیں بلکہ وہ ہمارے ملک کا بھی سرمایہ ہیں۔ کونسل اور رہائشیوں کی جانب سے، ہم ان کی کامیابیوں کو تسلیم کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔"

--- میئر لنڈا جیفری

-30-

**برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔** ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوٹنر اور فیس بک پر فالو کریں۔ یہاں مزید جانیں  
<http://www.brampton.ca>

میڈیا کنٹیکٹ

ٹران نگیان  
پولمز PR

<mailto:tnguyen@holmespr.com> 416.628.5607